

سونے یا چاندی کے دانت کا مسئلہ
 الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله
 الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں
 کہ کیا مرد کو سونے یا چاندی کا دانت لگانا جائز ہے؟ میڈیکل پرابلمز کی وجہ
 سے۔

سائل: ادیب فرام انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم
 الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

اگر چاندی کے بنے ہوئے دانتوں سے گزارہ ممکن ہو تو مرد صرف چاندی کے
 دانت ہی لگائے سونے کے دانت استعمال کرنے کی اجازت نہ ہوگی لہذا چاندی یا
 کسی اور چیز سے بنے ہوئے دانتوں سے کام چلایا جائے۔ لیکن اگر چاندی یا کسی
 اور دھات کے دانتوں سے ضرورت پوری نہ ہو یعنی چاندی یا کسی اور دھات
 کے دانتوں میں بو یا تعفن پیدا ہو جاتا ہو تو مرد سونے کے دانت بھی لگا سکتا
 ہے یعنی ضرورتاً اس کی اجازت ہوگی اور بلا ضرورت مردوں کو سونے کا دانت
 ناجائز ہے۔

جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان دانتوں کے لیے
 سونے کا تالو لگانے کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ
 سونے کا تالو عورتوں کو مطلقاً جائز ہے اور مردوں کو بضرورت [اس کی
 ضرورت ہو تو جائز ہے] یعنی جبکہ سونے میں کوئی خصوصیت محتاج الیہا ایسی
 ہو کہ چاندی وغیرہ سے حاصل نہ ہو سکتی ہو۔

[فتاویٰ رضویہ ج 24 ص 194]

اور ہدایہ میں ہے: "الاصل فيه التحريم والاباحة للضرورة وقد اندفعت بالفضة وهي
 الادنى فبقى الذهب على التحريم والضرورة لم تندفع في الانف دونه حيث انتن"
 سونے کے استعمال میں اصل حرمت ہے اور اس کا مباح ہونا ضرورت کی وجہ
 سے ہے کیونکہ چاندی سے یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور اس کا استعمال
 بنسبت سونے کے قریب ہے، لہذا سونا اپنی حرمت پر باقی رہے گا، اور یہ
 ضرورت ناک لگانے میں بغیر سونے کے پوری نہیں ہو سکتی (لہذا سونے کی
 مصنوعی ناک لگانا جائز ہے) کیونکہ سونے کے علاوہ باقی دھاتوں میں بدبو
 پیدا ہو جاتی ہے۔

(الہدایة کتاب الحظر والاباحة فصل فی اللبس مطبع یوسفی لکھنؤ ۴/ ۴۵۵)
 مشورہ: آج کل میڈیکل فیلڈ میں جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے سونے کے علاوہ
 کئی دوسری چیزوں کے بنے ہوئے دانت مارکیٹ میں آچکے ہیں لہذا سخت
 ضرورت کے علاوہ سونے کے دانت سے پرہیز ہی کیا جائے۔

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

REGARDING GOLD AND SILVER TEETH

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

QUESTION:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: Is it permissible for men to have their teeth made with gold or silver due to medical problems?

Questioner: Adib from UK

ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

If survival with silver teeth is possible, then a man should get his teeth made of silver only. Gold teeth will not be permissible. Therefore, teeth made of silver or some other material should be used. However, if teeth of silver or any other metal are not enough and there is still odour and decay, then a man can get his teeth made of gold. This is only permissible if it is necessary; if it is not necessary then it is impermissible for a man to have gold teeth.

Imam Ahmad Rida Khan (may Allah be pleased with him) was asked regarding golden tooth coverings and thus was his reply, "Golden tooth coverings are absolutely permissible for women and are permissible for men only out of necessity. This is when there is some speciality in gold that is to be dependent upon and is not found in silver, etc."

[Fatawa Ridawiyah, vol. 24, pg. 194]

It is mentioned in al-Hidayah, "The original ruling regarding the use of gold is impermissibility. It becomes permissible only out of necessity. If the need is fulfilled by using silver, and using silver is more feasible than using gold, then the ruling regarding the impermissibility of gold will be maintained. The need is not fulfilled in this case, i.e. a nose implant, without the use of gold. Because, foul odour is emitted by metals other than gold."

[al-Hidayah, vol. 4, pg. 455]

In today's day and age, there have been new developments in medicine such that there are many other materials other than gold that can be used for teeth. Therefore, unless strictly necessary, gold teeth should be avoided.

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by the SeekersPath Team